

برائے فوری اجراء

سٹی کے Nurturing Neighbourhoods پروگرام برائے 2022 کا دوبارہ انعقاد کیا جا رہا ہے

برامپٹن، آن (4 اگست 2022) – اس مرتبہ سٹی آف برامپٹن کے Nurturing Neighbourhoods پروگرام کا انعقاد مورخہ 9 اگست 2022 کو کیا جا رہا ہے۔

Nurturing Neighbourhoods پروگرام کا مقصد رہائشیوں کو مقامی معاملات کے ساتھ وابستہ کرنا، اپنے پڑوس کے ماحول کو بہتر بنانے میں ان کے کردار میں اضافہ کرنا اور انہیں وسائل کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ رہائشیوں کے پاس اپنے پڑوس کے بارے میں مزید جاننے اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنے کے درج ذیل تین طریقے موجود ہوتے ہیں:

- پڑوس کے علاقوں کی چہل قدمی – چہل قدمی اور ورکشاپس کے پانچ پروگرام ہوں گے جو پورے برامپٹن میں منعقد کیے جائیں: فلیچرز میڈو N/S اور وین کرک، لنڈے ولیج اور فلیچرز کریک، برامیلا G سیکشن، کیسل مور اسٹیٹس اور وائلڈ فیلڈ اور شیرٹن۔
- ورچوئل ٹور - پورے برامپٹن میں پڑوسی علاقوں کے منفرد مقامات کو متعارف کروانے کے لیے دس ورچوئل ٹور ہوں گے۔
- نیبرہڈ سروے – سٹی اس بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ کمیونٹی کا پڑوس کیسا ہے اور یہ کہ رہائشی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے متعامل ہوتے ہیں۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اس [آن لائن سروے](#) میں حصہ لیں۔
- آن لائن میننگ ٹول – اس ٹول کی مدد سے رہائشی اپنی پسندیدہ جگہوں، اپنے خدشات اور ایسی تبدیلیوں کو نمایاں کر سکیں گے جن پر وہ پورے شہر میں عمل درآمد ہونا دیکھنا چاہتے ہوں۔

برامپٹن کے رہائشیوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ بھی انعام جیتنے کے ایک موقع میں حصہ لینے کے لیے اپنے پڑوس کے قابل ذکر پہلوؤں کو نمایاں کرنے والی کوئی مختصر ویڈیو شیئر کریں! سٹی کو 14 اگست تک اپنے پسندیدہ مقامی مقامات سے آگاہ کریں۔ اس سال کے پروگرام میں منتخب ویڈیوز کو نمایاں کیا جائے گا! ویڈیوز کو آن لائن طریقے سے www.brampton.ca/communitysafety پر شیئر کیا جا سکتا ہے۔

تعاون کنندگان سٹی کی جانب سے پیش کیے جانے والے ایسے مفت معیاری پروگرام فراہم کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، جو کمیونٹی میں ہر کسی کے لیے قابل رسائی ہیں۔ Nurturing Neighbourhood پروگرام کو ایک بار پھر الیکٹرا اور اینیریج گیس کی جانب سے فراخ دلانہ تعاون حاصل ہے۔

Nurturing Neighbourhoods کے بارے میں مزید معلومات اور ورچوئل سیر کے لیے پڑوس کے علاقوں کی مکمل فہرست کے لیے www.brampton.ca/communitysafety ملاحظہ کریں۔

2021 پروگرام

گذشتہ سال، برامپٹن کے رہائشیوں کو باہمی طور پر وابستہ رکھنے اور عوام میں ایک کمیونٹی ہونے کا احساس اجاگر کرنے کی حوصلہ افزائی کے لیے سٹی نے برامپٹن کے 15 مقامی علاقوں کو شامل کیا تھا۔ جس میں 1300 سے زائد رہائشیوں نے 2021 کے Nurturing Neighbourhoods پروگرام میں فعال کردار ادا کر کے اپنی کمیونٹی کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کی۔ سٹی کو اپنے سروے میں 900 سے زائد جوابات اور آن لائن میننگ ٹول کے ذریعے 450 سے زائد شعبہ جات کے بارے میں نشانہ بندی موصول ہوئی۔ 2021 کے نتائج پر مزید کے لیے، ملاحظہ کریں: www.brampton.ca/communitysafety

اقتباسات

"برامپٹن کے رہائشی اپنی پڑوس کے علاقے کو فخر سے اپنا گھر کہتے ہیں اور ہمارے شہر کے بارے میں وہ کیا پسند کرتے ہیں اور جو وہ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ان کی رائے ہمارے لیے انمول ہے۔ ایک صحت مند اور محفوظ شہر کے طور پر، ہم چاہتے ہیں کہ برامپٹن کے تمام باشندے اپنے پڑوس میں خود کو محفوظ محسوس کریں، ان سے تعلق کا احساس ہو اور انہیں اپنی کمیونٹی میں فعال

طور پر حصہ لینے کے مواقع میسر آئیں۔ ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ماضی میں Nurturing Neighborhoods پروگرام میں حصہ لیا اور اس حوالے سے ہم مزید جاننے کے لیے اپنے رہائشیوں کے ساتھ دوبارہ مربوط ہونے کے منتظر ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اپنے شہر کو ایسا بنانے کے لیے پر عزم ہے جسے ہمارے تمام باشندے اپنا گھر کہنے پر فخر محسوس کریں۔ برامپٹن کے باشندوں کو اس سال کے Nurturing Neighborhoods کے علاقوں کا ذاتی طور پر دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے اور ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی قیمتی رائے کو ہمارے ساتھ آن لائن طور پر یا ہمارے طے شدہ چہل قدمی کے موقع پر فراہم کریں اور انعام جیتنے کے موقع کے لیے ایک مختصر ویڈیو میں اپنے پڑوس کے پسندیدہ پہلوؤں کا اشتراک کریں! آپ کی رائے ہمارے نہایت اہم ہے اور آپ ماحولیاتی طور پر مستحکم اور مکمل کمیونٹیز کی تعمیر میں ہماری مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"Nurturing Neighborhoods پروگرام برامپٹن کے رہائشیوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے بارے میں جو کچھ بھی پسند کرتے ہوں اس کا اشتراک کریں، سٹی کے آنے والے منصوبوں کے بارے میں جانیں اور مقامی طور پر مثبت تبدیلیوں کی ترغیب دیں۔ ہم اپنے تمام باشندوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں اس پروگرام میں حصہ لیا اور ہم اس سال کے پروگرام کے ذریعے اپنے رہائشیوں کے ساتھ دوبارہ مربوط ہونے کے منتظر ہیں۔"

- پال موريسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca